بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ص۳ قولہ عن الوضین مرسلا ۱۲

قولہ فلما اجابت فلما انطلق لسانہا بالنطق والاجابۃ ۱۲

ص۵ قولہ اخبرنا حیوۃ بن شریح ثقۃ من العاشرۃ ۱۲

قولہ ثنا بقیۃ بن الولید الکلاعی ۱۲

قولہ ثنا بقیۃ بن الولید التیمی ثقۃ وقد زال تخشے تدلیسہ بقولہ حدثنا ۱۲

قولہ ثنا بحیر بن سعد ثقۃ ثبت ۱۲

قولہ عن خالد بن معدان الحمصی ابو عبد اللہ ثقۃ عابد والثالثۃ ۱۲

قولہ عن جبیر بن نضیر الحضرمی نعم ان کان الشیخۃ صوابہ بالفاء وجبیر حضرمی حمصی

ہذا ثقۃ جلیل من الثانیۃ مخضرم ولابیہ صحبۃ العوجاء کانہ بنوہا وقد ادافی عہد

عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحبۃ لہا واللہ تعالی اعلم

قولہ العوجا الظاہر ان صوابہ عوجا جمع عوجا کلام صفۃ السنۃ جمع لسان ۱۲

ص۲۶ قولہ ما الذی هو خرج اللہ وہو الاسلام ثبتنا اللہ تعالی علیہ حتی نلقاہ آمین ۱۲

ص۲۷ قولہ لا ادری لا ادری عن عطاء ۱۲

قولہ عن القسم لا ادری من القاسم بن محمد ابن صدیق ۱۲

ص۳۱ قولہ وقد کان ابوک ای جدک یعنی الصدیق ۱۲

قولہ العابدون کانہ یعنی العلماء العاملین ۱۲

ص۳۲ قولہ عن عبید اللہ بن ابی جعفر ابو بکر الفقیہ المصری من رجال الستۃ من ثقۃ من صغار

التابعين في الطبقة السادسة ۱۲

ص ۳۳ قوله قال قلت عليها بتقديم حرف الاستفهام ۱۲

ص ۳۴ قوله قال لم يكن ورواه ابن سعد في السنة والعدني وابن جرير كما في كنز العمال ج ا ص ۱۹۴ ۱۲

ص ۳۶ قوله والتمست الدنيا هو في الكنز ص ۲۴۲ ج ۲ رزش ونعيم في الفتن ۱۲

ص ۳۸ قوله اخبرنا الحكم بن المبارك صدوق ربما وهم من العاشرة ۱۲

قوله اخبرنا الحكم بن المبارك قال ابن عدي في الكامل حدثنا عيسى بن احمد نا ابو عبيد الله نا ابن وهب نا عيسى بن يونس فساق السند المتن ثم قال هذا انما يعرف نعيم بن حماد عن عيسى وسرقه منه سويد بن سعيد وعبد الوهاب من الضحاك والحكم بن المبارك اي نشئ اخ ۱۲

قوله فسراه اي امسك في مسجد ۱۲

ص ۳۹ قوله قالت ولو سميته عرفته بعلامة وفراسته ۱۲

ص ۴۰ قوله قال عبد الله بن محمد ۱۲

ص — قوله اخبرنا يأتي لسندت آخر ص ۵۹ ۱۲

ص ۴۲ قوله حقرة كما يأتي في اسم حسن ص ۵۲ ۱۲

ص ۴۳ قوله قال عمر تفقهوا وعلقه خ في ترجمة باب ۱۲

ص ۴۸ قوله عن ابي الدرداء ورواه عنه ابو داود والحاكم وعن زياد واحمد وغيره ۱۲

ص ۵۰ قوله كنز تنقله اي المذكور في الحديث قبله ۱۲

ص ۵۴ قوله اخبرنا بشر بن ثابت البزار صدوق من التاسعة علق عنه - نا ابكار يعرف ميزان مجهول من الثامنة تقريب ۱۲

ص ۵۵ قوله عن هارون هو ابن عنترة كما مر في الصفحة المتقدمة ۱۲

ص ۵۶ قوله عن هشام حسب الاستواء لعله الاستواء بالدال جعله الناسخ البوفال بالالف تلميحا الى مذهبه الفاسد والله تعالى اعلم ۱۲

ص۵۹ قولہ اخبرنا احمد بن عبد اللہ ھو مسند آخر صفحہ ۱۲

ص۶۰ قولہ محمد ہو ابن سیرین ۱۲

ص۶۴ قولہ ارد علیک ای اردد ای اعید ۱۲

قولہ ان یرد علی ای ما استعدت حدیثا من شیخ قط ۱۲

ص۶۵ قولہ عن محمد بن سیرین صح

قولہ والتمسہ بیدہ لانہ کان ضریرا ۱۲ م

ص۶۷ قولہ قال شعبۃ لم یذکر المقسم علیہ فقال ثقۃ قولہ فاقسم بامہ احسبہ خ ۱۲

قولہ قال شعبۃ ۱۲

قولہ احسبہ ابن مسعود ۱۲

قولہ لو انہا ای النسخۃ ۱۲

قولہ اریلہ قال شعبۃ

قولہ اریہ ابن مسعود ۱۲

قولہ یعنی مکانا لقولہ دار الہند ۱۲

قولہ ولو شیا لامحو ۱۲

ص۷۱ قولہ محمد ابن سیرین ۱۲

ص۱۵۱ قولہ عن عبد اللہ ہو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ۱۲

ص۳۸۴ قولہ عن ابی سلیمان بن ربیعۃ صوابہ سلمان حکیرا قاضی الکوفۃ لہ صحبۃ لقیل لہ صحبۃ سلمان خیل ۱۲

ص۳۹۵ قولہ عن یزید بن عبد اللہ الیزنی صوابہ مرثد بمیم فراء فثاء مثلثۃ کنیتہ ابو الخیر مصری ثقۃ فقیہ من الثالثۃ رجال الستۃ ۱۲ روی ہذا الحدیث عنہ ابن ابی شیبۃ وابن جریر فقالا عن ابی الخیر ۱۲